

си несъгласие и раздоръ помежду жители-тѣ, такывато законно ще бѫдѫтъ подъ отговорность и ще са мъмратъ.“

Ето и сътвѣтниятъ оригиналъ турски текстъ на сѫщия членъ 10:

عashra اشبو باغار ا کسار خیا سنک دائرة روحانیه‌ی رو سیجق و سلسنه و شفی و طرنوی و صوفیه و دراجه و لوبخه و و دین و نیش و شهر کویی و کوستنجه و صاقو و ولیسا و وارنه شهریله کوستنجه به قدر بحر سیاه ساحلنده کائ او لوب اهالیسی باغار اولیان تقریباً یکرمی عدد قرا داخل او لمیدرق وارنه و احیولی و مسوردی قصبه لر زدن ماعدا اسلامیه سنجانی و سا-ملده بولنان کوبیلردن ماعدا سوزه بولی قضایی و نفس فایه شهری ایله استانیماقا قصبه سی و قوقلنه و دنیا و اربنود کویی و پانایا و نووسی و لا-قو وار خلافی و یاجقو و ولاستنجه قریه لر زدن و یاجقوه و ایوس انا کری ایوس بر اشکوی و ایوس یورکی منا-ترلر زدن ماعدا فلبه متنه بولید لکلر زدن عبارت او لوب نفس فلبه شهر زده و اقام پانایه محله سی دخی بلغار ا کسار خیا سنکه داخل او له حق ایسه ده محله مرقومه اهالیسندن باغار کلیسا و اکسار خیا سنکه تابع او لمق استمیانلر هر و جهله محنتار او له جقلر و بونک تفصیلاتی پطری تمانه ایله ا کسار خیا بیننده اصول مذهبیه به توفیقاً تسویه قلنجه جقدر .

اشبو تعداد و تسمیه او لنان محللرden بشقه یرلرک او ر تو دو قس مذهبنده بولنان اهالیسندنک عمومی و یاخود لاقل ثانافی امور روحانیه لر زده بلغار ا کسار خیا سنکه تابع او لمق ایسترلر و بودنی بالتحقيق ثابت و معین او لور ایسه تجویز او لوب لکن بو صورت اهالینک بر منوال مشروع جمله سنک و هیچ او لمز ایسه ثاناتک اتفاق و آرزو سیله او له جمندن بو و سیله ایله اهالی بیننده بر کونانفاق و شفاقت دوشور مکه جالیشا نلر او لدینی حالده او مقوله نر قانوناً مسئول و معاتب او له جقلر در .

Шомъ ферманътъ стана извѣстенъ изъ българскитѣ земи, движението противъ гръцкото духовенство се засили и въ онния крайща, които бѣха по-уединени или въ които гърцизмътъ бѣ пусналъ дълбоки корени. Ферманътъ ободри и онѣзи българи, които до тогава боязливо даваха гласъ за народността си, бидейки застрашавани отъ мѣстнитѣ турски